

CSS 2019

Translation the following Passage
into English

Pakistan is ^{determined} ready for
peace in Afghanistan because
it is important to ^{for} Pakistan.
In historical context, Pakistan
and Afghanistan are neighbour
and Islamic countries. ^{Both are} it also
^{linked} linkage in historic and
traditional way. They also ^{have}
strong ^{bondage} bond and dependent
on one another. Pakistan's
stance is to find out
political way to solve the
problem of Afghanistan. China
~~is to agree with~~ ^{also agrees to} this
idea. In this context, ^{it} he
said that this problem
can be solved with in
political discussion with Afghan's
leader. Pakistan and China
will play role in Afghan's
peace for strategic collaboration.

(vi) Sit on the fence

(vii) In a jiffy

(viii) To preen oneself

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لئے پُر عزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لئے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے اٹوٹ ہیں، دونوں کا اٹھارہ ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغانستان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت داری کے لئے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

Pakistan is ready to establish
peace in Afghanistan because